

جیسا کہ مئی میں اشتراک کیا گیا تھا ، ٹورنٹو ڈسٹرکٹ اسکول بورڈ (ٹی ڈی ایس بی) تمام خاندانوں سے 2021-22 تعلیمی سال کے لئے شخصی طور پر موجود ہو کر (ان پرسن) یا ورچوئل لرننگ کے لئے سلیکشن فارم مکمل کرنے کے لئے کہے گا۔

پچھلے کئی ہفتوں کے دوران ، ٹورنٹو میں کووڈ-19 کے کیسز مسلسل طور پر کم واقع ہوئے ہیں، اور ہم نے بالغوں اور 12 تا 17 سال کی عمر کے بچوں میں ویکسینز کی نمایاں پیشرفت دیکھی ہے۔ یہ ایک حوصلہ افزا خبر ہے ، اور ہم ستمبر میں تمام طلباء کو ان کے ہوم اسکولوں سے جوڑنے اور ان کا شخصی طور پر خیرمقدم کرنے کے منتظر ہیں۔

اگرچہ ورچوئل لرننگ کی درخواستوں کو جہاں ضرورت ہو گی وہاں گنجائش نکالی جائے گی، لیکن ہم تمام طلباء کی سخت حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وہ شخصی طور پر سیکھنے (ان پرسن لرننگ) کا انتخاب کریں۔ طلباء لرننگ کے کس طریقے کو سب سے بہترین محسوس کرتے ہیں، اس بارے میں ہمارے ٹی ڈی ایس بی ک اعداد و شمار (ڈیٹا) پر مبنی، اور طلباء کے ان پرسن لرننگ پر لوٹنے سے متعلق جر اعداد و شمار (ڈیٹا) دستیاب ہیں، ان کی بنا پر، ہم اعتماد محسوس کرتے ہیں کہ طلباء کے لئے ایک مشکل سال گزارنے کے بعد، یہ ایک بہترین انتخاب ہے ۔

اہل خانہ **جمعرات، 5 اگست سے جمعرات، 12 اگست تک** کی مدت کے دوران شخصی طور پر (ان پرسن) یا ورچوئل لرننگ کے سلیکشن فارم کو مکمل کرسکتے ہیں۔

سلیکشن فارم کے لنک کے ساتھ ایک ای میل **جمعرات، 5 اگست** کو بھیجی جائے گی۔ دو یا زیادہ بچوں والے خاندانوں کو ہر طالب علم کے لئے ایک علیحدہ ای میل اور لنک موصول ہوگی۔ اہل خانہ کو فراہم کردہ لنک کا استعمال کرتے ہوئے سلیکشن فارم لازمی طور پر مکمل کرنا ہوگا۔

جن لوگوں کا کوئی ای میل ایڈریس ٹی ڈی ایس بی کی فائل پر نہیں ہے، ان کو 10 سے 12 اگست کے درمیان سلیکشن فارم کو مکمل کرنے کے لئے ایک فون کال موصول ہوگا۔ اگر ہمیں 12 اگست تک تکمیل شدہ سلیکشن فارم موصول نہیں ہوتا ہے تو طلباء کو شخصی طور پر (ان پرسن) لرننگ میں رکھا جائے گا۔

جب کہ ہم تعلیمی سال کے ہموار آغاز کی تیاری کے لئے مل کر کام کرتے ہیں، آپ کے تعاون کا شکریہ ۔

مزید معلومات کے لئے ، براہ کرم www.tdsb.on.ca/School-Year-2021-22/2021-22-Selection-Form پر جائیں۔